

August 24, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: BOARD MEETING OUTCOME — PROPOSED SUB-DIVISION (STOCK SPLIT) OF ORDINARY SHARES

Dear Sir,

This is in continuation of our letter dated August 17, 2026 on the subject cited above, notifying the Exchange of the Board meeting held on Monday, August 24, 2026.

We are pleased to inform you that the Board of Directors of iTANZ Technologies Limited ("the Company"), at its meeting held today, has considered and approved, in principle, the sub-division (stock split) of the Company's ordinary shares from a face value of Rs. 10/- each to Re. 1/- each, i.e. a 10-for-1 split, subject to approval of the members by special resolution and completion of all applicable statutory and regulatory requirements.

Key terms of the approved proposal are summarized below:

Particulars	Detail
Face value per share	Reduced from Rs. 10/- to Re. 1/- (10 new shares for every 1 existing share held)
Paid-up capital	Unchanged at Rs. 1,186,036,500
Issued shares	Increases from approx. 118,603,650 to approx. 1,186,036,500 shares; unchanged proportionate ownership for every member
Authorized capital	No change in Rupee terms; no further increase required
Consequential amendments	Amendment of the Memorandum and Articles of Association to reflect the revised face value and share capital structure, also approved by the Board for placement before members
Members' approval	To be sought by special resolution (not less than 75% of votes cast) at an Annual General Meeting tentatively to be convened on September 30, 2026

Particulars	Detail
Authorization	The Chief Executive Officer, any Director, and/or the Company Secretary have been jointly/severally authorized to complete regulatory formalities with the SECP, PSX and CDC, and to finalize the effective and record dates

For shareholders' reference, and without implying any expectation as to future trading levels, the Company's shares closed at Rs. 45.41 (market capitalization of approximately Rs. 5.39 billion) at the close of trading on Friday, August 21, 2026, the last trading session preceding this Board meeting. On a post-split, illustrative basis this would correspond to approximately Re. 4.54 per share, with market capitalization unaffected by the split.

A stock split does not, of itself, alter the Company's paid-up capital, net assets, earnings, or any member's proportionate shareholding; it re-denominates the same paid-up capital into a larger number of shares of lower face value. Accordingly, the proposal does not involve any cash outlay by the Company or dilution of existing shareholders.

A separate briefing note is being issued to shareholders, in the interest of good corporate governance and to enable them to take an informed investment decision ahead of the General Meeting, together with the formal notice of the Annual General Meeting and the statement of material facts under Section 134 of the Companies Act, 2017, in due course.

The Closed Period declared from August 17, 2026 to August 24, 2026 (both days inclusive) under Clause 5.6.4 of the PSX Regulations stands concluded with effect from today.

This notice is being submitted in compliance with the continuous disclosure requirements of the PSX Rule Book, as the above constitutes price-sensitive information.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,

For iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED




H. M. MAQSOOD MUNSHI
Company Secretary

SHAREHOLDER BRIEFING NOTE

Proposed Sub-Division (Stock Split) of Ordinary Shares

From Face Value of Rs. 10/- to Re. 1/- Each (Proposed 10-for-1 Split)

Purpose of this note

This briefing note has been prepared for the shareholders of iTANZ Technologies Limited ("iTANZ" or "the Company") to explain, in plain language, a proposal considered by the Board of Directors to sub-divide the Company's ordinary shares. It summarizes the Board paper considered at the meeting of August 24, 2026 and is issued as a matter of good corporate governance, to help shareholders understand the proposal ahead of the General Meeting at which it will be put to a vote. It does not constitute investment, legal, or tax advice, and does not replace the formal Notice of Meeting and statement of material facts that will be circulated to members in due course.

1. What Is Being Proposed

Subject to shareholders' approval and completion of statutory and regulatory requirements, the Board has approved, in principle, a proposal to sub-divide each existing ordinary share of the Company (currently Rs. 10/- face value) into ten (10) ordinary shares of Re. 1/- face value each, commonly known as a 10-for-1 stock split.

The proposal, together with consequential amendments to the Company's Memorandum and Articles of Association, will be placed before members for approval by special resolution (requiring the support of at least 75% of votes cast) at the Company's Annual General Meeting, tentatively to be convened on September 30, 2026.

2. What Is a Stock Split, in Plain Terms

A stock split simply divides each share you currently hold into a larger number of shares, each with a proportionately lower face value. It does not change:

- The total value of your shareholding
- Your percentage ownership of the Company
- The Company's total paid-up capital, assets, liabilities, or earnings
- The Company's market capitalization

What does change is the number of shares you hold and the price of each individual share, which adjusts downward in the same proportion as the split. For example, a shareholder currently holding 100 shares of Rs. 10/- each (worth Rs. 1,000 in paid-up value) would, after a 10-for-1 split, hold 1,000 shares of Re. 1/- each, still worth Rs. 1,000 in paid-up value, and still the same percentage of the Company.

A stock split is different from a bonus issue: a bonus issue capitalizes the Company's reserves and increases paid-up capital, giving shareholders additional value from retained earnings. A stock split does not increase paid-up capital or draw on reserves — it simply re-denominates the same paid-up capital into a larger number of lower-value shares. It is also not a taxable event for shareholders and requires no cash outlay by the Company.

3. Illustrative Effect on Key Figures

The table below is illustrative only, based on the Company's recent share capital and indicative recent market prices. Actual figures will be finalized as of the record date.

Metric	Before Split (FV Rs. 10/-)	After Split (FV Re. 1/-)
Face value per share	Rs. 10/-	Re. 1/-
Issued & paid-up shares	118.60 million	1,186.04 million
Paid-up capital	Rs. 1,186.04 million	Unchanged
Market price (close, Aug 21, 2026)*	Rs. 45.41	Re. 4.541 (illustrative)
Market capitalization (Aug 21, 2026)*	Rs. 5.39 billion	Rs. 5.39 billion (unchanged)
Your % ownership	No change	No change

*Market price and market capitalization as at the close of trading on Friday, August 21, 2026, the last trading session before this note was finalized. Actual figures on the effective/record date of the split may differ.

4. Why the Board Is Proposing This

4.1 Improved trading liquidity

A lower per-share price and a larger number of shares outstanding typically leads to higher trading volumes and narrower bid-ask spreads, making it easier for shareholders to buy or sell shares. This has been the most consistently observed benefit among PSX companies that have split their shares to date.

4.2 Wider affordability and shareholder base

A lower share price makes iTANZ shares more accessible to a broader pool of retail and first-time investors, relevant to iTANZ's positioning as a technology company seeking an engaged, broad-based shareholder community.

4.3 No dilution, no cost to shareholders

Unlike a rights issue, a stock split does not raise new capital, does not dilute your proportionate ownership, and requires no payment from shareholders.

4.4 A tax-efficient alternative to bonus shares

Since the Finance Act 2023 reinstated withholding tax on bonus share issuances (10% of bonus shares issued), a stock split has become a comparatively more tax-efficient way of increasing the number of shares held at a lower price per share, as it is not a distribution of reserves and does not currently attract the same withholding requirement.

4.5 Consistent with regulatory policy and current market practice

In December 2024, the Securities and Exchange Commission of Pakistan approved PSX Stock Split Guidelines specifically to encourage listed companies to consider stock splits to improve liquidity and retail access. Since then, at least 22 PSX-listed companies across banking, cement, textiles, brokerage, engineering and technology have announced or completed stock splits, in addition to three earlier precedents, including 13 of 27 precedents reviewed (roughly half) that adopted the same 10-for-1 ratio now proposed for iTANZ.

5. An Important Note of Caution on Share Price

This split is not expected, of itself, to raise the share price

The Board reviewed share price performance for 21 PSX companies that completed a split in 2025–2026 with sufficient trading history since. Ten rose and eleven fell in price after their split. The median change was approximately –0.4%, essentially flat, and this was achieved during a strong bull market in which the benchmark KSE-100 index rose by roughly 44% over FY2026 and by approximately 18% over the twelve months to the close of trading on August 21, 2026 (the last trading session before this note was finalized). In other words, split shares as a group did not clearly outperform the broader market over the same period. One precedent (+304.3%) skews the simple average upward; excluding it, the average change was closer to +7.4%. Individual outcomes were driven mainly by company and sector-specific factors, not by the split itself.

The Board's recommendation therefore rests on the well-evidenced liquidity and affordability benefits described in Section 4 above, and not on any expectation that the split will increase the value of your shareholding. Shareholders should evaluate the proposal accordingly, and should not treat it as a signal about the Company's expected future share price.

6. Risks and Practical Considerations

- No fundamental value creation: the split does not increase iTANZ's earnings, assets, or intrinsic value, only the number and denomination of shares.
- Resulting share price: based on the closing price of Rs. 45.41 on August 21, 2026, the indicative post-split price would be approximately Re. 4.54 per share, in line with several recent PSX precedents at the same ratio.
- Modest administrative and regulatory costs will be incurred by the Company (SECP, PSX and CDC fees, share registrar charges, and shareholder communication), not expected to be material to the Company's size.
- As with any special resolution, the proposal requires the support of at least 75% of votes cast by members present in person or by proxy at the General Meeting; there is a low but non-zero risk it may not pass.
- Shareholders should ensure their CDC accounts are in good order ahead of the record date, so that additional shares arising from the split are credited without delay.

7. What Happens Next — Indicative Timeline

- Formal Notice of the Annual General Meeting, together with the statement of material facts under Section 134 of the Companies Act, 2017, to be circulated to members (tentative AGM date: September 30, 2026).
- Members vote on the special resolution at the AGM (requires 75% approval).
- If approved, filing of the resolution and amended Memorandum and Articles of Association with the SECP/Registrar of Companies.
- Completion of formalities with PSX and the Central Depository Company of Pakistan (CDC), including determination of the effective/record date.
- Additional shares arising from the split credited to shareholders' CDC accounts, followed by public announcement of the effective date.

Based on recent PSX precedents, the overall process from Board approval to completion typically takes 6–8 weeks.

8. Frequently Asked Questions

Do I need to do anything?

No action is required from shareholders to receive the additional shares if the proposal is approved; they will be credited automatically to your CDC account (or reflected in your physical share certificate, where applicable) as of the record date. You will, however, need to vote, in person, by proxy, or as otherwise permitted, at the AGM for the special resolution to pass.

Will I own more of the Company after the split?

No. Your percentage ownership of iTANZ stays exactly the same. You will simply hold more shares, each representing a proportionately smaller slice of the same overall stake.

Will the value of my shareholding change?

Not as a direct result of the split. The value of your total holding immediately before and after the split should be the same, before any subsequent market movement. As explained in Section 5, the evidence from other PSX companies does not show a consistent pattern of share price gains following a split.

Is this the same as a bonus issue?

No, see Section 2 above for the distinction. A bonus issue increases your paid-up capital using Company reserves; a stock split does not.

Is this a taxable event?

A stock split is not, of itself, a taxable event for shareholders, as it involves no distribution of profit or reserves. Shareholders with specific tax questions should consult their own tax adviser.

9. Where to Get More Information

The formal Notice of the Annual General Meeting will be made available to shareholders in accordance with the Company's disclosure obligations under the Companies Act, 2017 and the PSX Rule Book. Shareholders with questions are encouraged to contact the Company Secretary's office.

Issued for the information of shareholders as a matter of good corporate governance.

For iTANZ TECHNOLOGIES LIMITED



H. M. MAQSOOD MUNSHI
Company Secretary

Dated: August 24, 2026

شیئر ہولڈرز کے لیے معلوماتی نوٹ

کمپنی کے عام حصص کی مجوزہ تقسیم (Stock Split)

فی حصص مالیتی قدر (Face Value) روپے 10 سے کم کر کے ایک (1) روپیہ کرنے کی تجویز

(10 کے بدلے 1 کی بنیاد پر حصص کی تقسیم)

اس نوٹ کا مقصد

یہ معلوماتی نوٹ آئی ٹانز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ (ITANZ Technologies Limited) کے معزز شیئر ہولڈرز کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ انہیں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے پیش کی جانے والی حصص کی تقسیم (Stock Split) کی تجویز سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں سمجھائی جا سکے۔

اس نوٹ میں 24 اگست 2026 کو بورڈ کے اجلاس میں زیر غور آنے والی تجاویز کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے تاکہ سالانہ جنرل اجلاس (AGM) میں ووٹنگ سے قبل تمام شیئر ہولڈرز اس تجویز کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

یہ نوٹ صرف معلومات فراہم کرنے کے مقصد کے لیے ہے۔ اسے سرمایہ کاری، قانونی یا ٹیکس سے متعلق مشورہ تصور نہ کیا جائے۔ حتمی فیصلہ جنرل میٹنگ کے نوٹس اور اس کے ساتھ جاری ہونے والے متعلقہ قانونی دستاویزات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

1. کیا تجویز پیش کی جا رہی ہے؟

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اصولی طور پر یہ منظوری دی ہے کہ کمپنی کے ہر موجودہ روپے 10 مالیتی ایک عام حصص کو تقسیم کر کے ایک (1) روپے مالیتی دس (10) عام حصص میں تبدیل کیا جائے۔

سادہ الفاظ میں اگر آپ کے پاس آج ایک شیئر ہے تو منظوری کے بعد وہ دس شیئرز بن جائے گا۔

یہ تجویز، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترامیم کے ساتھ، آئندہ سالانہ جنرل اجلاس میں خصوصی قرارداد (Special Resolution) کی صورت میں پیش کی جائے گی، جس کی منظوری کے لیے کم از کم 75 فیصد ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔

2. اسٹاک اسپلٹ کیا ہوتا ہے؟

اسٹاک اسپلٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک حصص کو چھوٹے حصص میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

اس عمل سے درج ذیل چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی:

• آپ کی سرمایہ کاری کی مجموعی مالیت

- کمپنی میں آپ کی ملکیت کا تناسب
- کمپنی کا ادا شدہ سرمایہ (Paid-up Capital)
- کمپنی کے اثاثے، ذمہ داریاں اور منافع
- کمپنی کی مجموعی مارکیٹ ویلیو (Market Capitalization)

البتہ دو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔

- آپ کے حصص کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔
- ہر حصص کی مالیتی قدر اور مارکیٹ قیمت اسی تناسب سے کم ہو جاتی ہے۔

مثال

اگر کسی شیئر ہولڈر کے پاس اس وقت:

- 100 حصص ہیں،
- ہر حصص کی مالیتی قدر 10 روپے ہے،

تو اسٹاک اسپلٹ کے بعد اس کے پاس:

- 1,000 حصص ہوں گے،
- ہر حصص کی مالیتی قدر ایک روپیہ ہوگی۔

لیکن اس کی مجموعی سرمایہ کاری اور کمپنی میں اس کا حصہ پہلے کی طرح بالکل برقرار رہے گا۔

اسٹاک اسپلٹ اور بونس شیئر میں فرق

بعض اوقات لوگ اسٹاک اسپلٹ کو بونس شیئر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔

بونس شیئر کمپنی کے محفوظ منافع (Reserves) کو سرمایہ میں تبدیل کر کے جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ

اسٹاک اسپلٹ میں نہ کمپنی کے محفوظ منافع استعمال ہوتے ہیں، نہ سرمایہ بڑھتا ہے، بلکہ صرف موجودہ حصص کو چھوٹے حصص میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

اسی لیے اسٹاک اسپلٹ کے لیے نہ کمپنی کو اضافی سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی عام طور پر شیئر ہولڈرز پر کوئی ٹیکس عائد ہوتا ہے۔

3۔ اس تقسیم کے بعد کیا تبدیلی آئے گی؟

تفصیل	تقسیم سے پہلے	تقسیم کے بعد
فی حصص مالیتی قدر	10 روپے	1 روپیہ
جاری شدہ حصص	118.60 ملین	1,186.04 ملین
ادا شدہ سرمایہ	1,186.04 ملین روپے	کوئی تبدیلی نہیں

تفصیل	تقسیم سے پہلے	تقسیم کے بعد
مارکیٹ قیمت*	45.41 روپے	تقریباً 4.541 روپے
مارکیٹ کی مجموعی مالیت	5.39 ارب روپے	کوئی تبدیلی نہیں
آپ کی ملکیت	کوئی تبدیلی نہیں	کوئی تبدیلی نہیں

* یہ صرف وضاحت کے لیے مثال ہے۔ اصل قیمت ریکارڈ تاریخ پر مارکیٹ کے مطابق ہوگی۔

4۔ بورڈ یہ تجویز کیوں پیش کر رہا ہے؟

4.1 حصص کی خرید و فروخت میں آسانی

جب فی حصص قیمت کم ہو جاتی ہے تو زیادہ سرمایہ کار حصص خریدنے اور فروخت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

اس سے:

- مارکیٹ میں لین دین بڑھتا ہے۔
- حصص کی لیکویڈیٹی بہتر ہوتی ہے۔
- خرید و فروخت آسان ہو جاتی ہے۔

4.2 زیادہ سرمایہ کاروں کی شمولیت

کم قیمت والے حصص نئے اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ قابل رسائی ہوتے ہیں۔

اس سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور سرمایہ کاروں کی بنیاد مزید مضبوط بن سکتی ہے۔

4.3 کسی قسم کی ملکیت میں کمی نہیں

اسٹاک اسپلٹ کے نتیجے میں:

- کمپنی نئے سرمایہ کے لیے رقم نہیں مانگتی۔
- موجودہ شیئر ہولڈرز کی ملکیت کم نہیں ہوتی۔
- کسی کو اضافی رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

4.4 ٹیکس کے اعتبار سے بہتر متبادل

فنانس ایکٹ 2023 کے بعد بونس شیئرز پر ودہولڈنگ ٹیکس دوبارہ نافذ کیا گیا۔

اس کے مقابلے میں اسٹاک اسپلٹ چونکہ منافع یا محفوظ سرمائے کی تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے موجودہ قوانین کے مطابق یہ نسبتاً زیادہ مؤثر اور موزوں طریقہ سمجھا جاتا ہے۔

4.5 موجودہ مارکیٹ رجحان کے مطابق

پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے حالیہ برسوں میں اسٹاک اسپلٹ کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بڑھے اور زیادہ سرمایہ کار شامل ہوں۔

متعدد پاکستانی لسٹڈ کمپنیاں اسی طرز پر اپنے حصص تقسیم کر چکی ہیں۔

5. ایک اہم وضاحت

کیا اسٹاک اسپلٹ سے حصص کی قیمت لازماً بڑھے گی؟

نہیں۔

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹاک اسپلٹ خود بخود حصص کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا۔

بورڈ نے مختلف پاکستانی کمپنیوں کے تجربات کا جائزہ لیا۔

نتائج سے معلوم ہوا کہ:

- کچھ کمپنیوں کے حصص بڑھے۔
 - کچھ کے کم ہوئے۔
 - مجموعی طور پر کوئی مستقل رجحان سامنے نہیں آیا۔
- اس لیے اس تجویز کا مقصد حصص کی قیمت بڑھانا نہیں بلکہ:

- حصص کی خرید و فروخت آسان بنانا،
- سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھانا،
- اور مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بہتر کرنا ہے۔

6. چند اہم نکات

- اس تقسیم سے کمپنی کی اصل مالی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی۔
- کمپنی کے منافع، اثاثوں یا بنیادی قدر میں اضافہ نہیں ہوگا۔
- صرف حصص کی تعداد بڑھے گی۔
- کمپنی کو معمولی انتظامی اور قانونی اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔
- اس تجویز کی منظوری کے لیے جنرل میٹنگ میں 75 فیصد ووٹ درکار ہوں گے۔
- شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ ریکارڈ تاریخ سے پہلے اپنے CDC اکاؤنٹ کی معلومات درست رکھیں تاکہ نئے حصص بروقت منتقل ہو سکیں۔

7. آئندہ مراحل

اگر شیئر ہولڈرز اس تجویز کی منظوری دے دیتے ہیں تو اس کے بعد:

- سالانہ جنرل اجلاس منعقد ہوگا۔
- خصوصی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔
- منظوری کے بعد متعلقہ قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی۔
- SECP، PSX اور CDC کی ضروری کارروائیاں مکمل ہوں گی۔
- ریکارڈ تاریخ مقرر کی جائے گی۔
- نئے حصص خودکار طریقے سے شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے جائیں گے۔

عام طور پر یہ تمام عمل تقریباً چھ سے آٹھ ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔

8. اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کیا مجھے کوئی کارروائی کرنا ہوگی؟

نہیں۔

اگر قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو اضافی حصص خودکار طریقے سے آپ کے CDC اکاؤنٹ یا شیئر سرٹیفکیٹ میں شامل کر دیے جائیں گے۔

البتہ آپ کو جنرل میٹنگ میں ووٹ ضرور دینا چاہیے۔

کیا میری کمپنی میں ملکیت بڑھ جائے گی؟

نہیں۔

آپ کی ملکیت کا تناسب بالکل پہلے جیسا رہے گا۔

صرف حصص کی تعداد بڑھ جائے گی۔

کیا میری سرمایہ کاری کی مالیت تبدیل ہوگی؟

نہیں۔

اسٹاک اسپلٹ کے فوراً بعد آپ کی مجموعی سرمایہ کاری کی مالیت وہی رہے گی۔

بعد میں مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق قیمت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔

کیا یہ بونس شیئر ہے؟

نہیں۔

بونس شیئر اور اسٹاک اسپلٹ دو مختلف چیزیں ہیں۔

کیا اس پر ٹیکس لاگو ہوگا؟

موجودہ قوانین کے مطابق صرف اسٹاک اسپلٹ ہونے کی وجہ سے شیئر ہولڈرز پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔

اگر کسی شیئر ہولڈر کے انفرادی ٹیکس معاملات مختلف ہوں تو وہ اپنے ٹیکس مشیر سے رہنمائی حاصل کریں۔

9۔ مزید معلومات

سالانہ جنرل اجلاس کا باقاعدہ نوٹس، متعلقہ قانونی معلومات کے ساتھ، مقررہ وقت پر تمام شیئر ہولڈرز کو فراہم کیا جائے گا۔

اگر آپ کو اس تجویز کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو براہ کرم کمپنی سیکریٹری کے دفتر سے رابطہ کریں۔

یہ معلوماتی نوٹ صرف شیئر ہولڈرز کی آگاہی اور بہتر کارپوریٹ گورننس کے اصولوں کے تحت جاری کیا جا رہا ہے تاکہ ہر شیئر ہولڈر اس اہم تجویز کو آسانی سے سمجھ سکے اور باخبر فیصلہ کر سکے۔